



Noble Quran القرآن الحكيم

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir)

(حضرت شاہ عبدالقدیر) اردو ترجمہ بمعہ عربی

سورة النمل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ج طس

طا۔ سین۔

تِلْكَءَايَتُ الْقُرْءَانِ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ
یہ آیتیں ہیں قرآن اور کھلی (واضح) کتاب کی۔

هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

سوجھ (ہدایت) اور خوشخبری ایمان والوں کو۔

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوَةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقَنُونَ

جو کھڑی رکھتے (قائم کرتے) ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ پچھلا گھر (آخرت) یقین جانتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَاهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَلُونَ

جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو، ان کو بھلے دکھائے ہیں ہم نے ان کے کام، سو وہ بھکے۔

.1

.2

.3

.4

.5

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ

وہی ہیں جنکو بُری طرح کی مار ہے، اور آخرت میں وہی ہیں خراب۔

.6

وَإِنَّكَ لِتَلَقَّى الْقُرْءَانَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلَيْهِ

اور تجھ کو تو قرآن ملتا ہے ایک حکمت والے خبردار سے۔

.7

إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَّسَتُ نَارًا

جب کہا موسیٰ نے اپنے گھروں کو، میں نے دیکھی ہے ایک آگ،

سَأَتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ إِنِّي أَتِيكُمْ بِشَهَابٍ قَبْسٍ لَّعَلَّكُمْ تَضَطَّلُونَ

اب لاتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر، یا لاتا ہوں انگار اسلا کر، شاید تم تاپو۔

.8

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُو رِكَّةَ مَنْ فِي الْأَنَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا

پھر جب پہنچا اس پاس، آواز ہوئی، کہ برکت رکھتا ہے جو کوئی آگ میں ہے اور جو کوئی اسکے آس پاس ہے،

وَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور پاک ہے ذات اللہ کی جو صاحب سارے جہان کا۔

.9

يَمْوَسِي إِنَّمَا أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اے موسیٰ! وہ میں اللہ ہوں زبردست حکمتوں والا۔

.10

وَأَلَقَ عَصَالَةَ

اور ڈال دے لاٹھی اپنی۔

ج

فَلَمَّا رَأَهَا هَاتَهُتْرُ كَانَهَا جَآنٌ وَلَيْ اِمْدِيرًا وَلَمْ يُعْقِبْ

پھر جب دیکھا اس کو پھن پھنا تے جیسے سانپ کی سٹک، پھر اپیٹھ دے کر اور پیچھے نہ دیکھا۔

يَمُوسَى لَا تَخْفِ إِنِّي لَا يَحْافُ لَدَيْ أَمْرُ سَلْوَنَ

اے موسی! ڈرنہ کھا، میں جو ہوں میرے پاس نہیں ڈرتے رسول۔

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّاجِحٌ

مگر جس نے زیادتی کی، پھر بدلتے نیکی کی برائی کے پیچھے، تو میں بخشنے والا ہم بان ہوں۔

صل

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بِيَضَاءِ مِنْ غَيْرِ سُوءِ

اور ڈال ہاتھ اپنا اپنے گریبان میں، کہ نکلے چڑا (سفید)، نہ کچھ برائی سے۔

فِي تِسْعِ إِيَّاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ

یہ مل کر نوشانیاں فرعون اور اسکی قوم کی طرف۔

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ

بیشک وہ تھے لوگ بے حکم۔

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ إِيَّنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

پھر جب پہنچیں ان پاس ہماری نشانیاں سمجھانے کو بولے، یہ جادو ہے صریح (کھلا)۔

وَجَحَدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَنْتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَغُلُوًّا

اور ان سے منکر ہو گئے، اور ان کو یقین جان چکے تھے اپنے جی میں بے انصافی اور غرور سے۔

.11

.12

.13

.14

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

سود کیھ، کیسا ہوا آخر بگاڑنے والوں کا؟

وَلَقَدْ ءاتَيْنَا دَاءً وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا

اور ہم نے دیاداً و اور سلیمان کو ایک علم۔

وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ أَمْوَالِنَا

اور بولا شکر اللہ کا جس نے ہم کو بڑھایا اپنے بہت بندوں ایمان والوں پر۔

وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاءً

اور وارث ہوا سلیمان داً د کا،

وَقَالَ يَا إِيَّاهَا النَّاسُ عِلْمُنَا مَنْطِقَ الْطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

اور بولا، لوگو! ہم کو سکھائی ہے بولی اڑتے جانوروں کی، اور دیا ہم کو ہر چیز میں سے۔

إِنَّ هَذَا الْهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

بیشک یہی ہے بڑائی صرتخ (نمایاں فضل)۔

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

اور جمع کئے سلیمان کے پاس اس کے لشکر، جن اور انسان اور اڑتے جانور،

پھر ان کی مثلیں بٹیں (صف بندی کی گئی)۔

.18

حَتَّىٰ إِذَا آتَوْا عَلَىٰ وَادِ الْنَّمْلِ قَالُوا نَمْلَةٌ يَأْيُهَا النَّمْلُ أَذْخُلُوا مَسِكِنَكُمْ

یہاں تک کہ جب پہچے چیو نیوں کے میدان پر، کہا، ایک چیو نی نے، اے چیو نیو! گھس جاؤ اپنے گھروں میں۔

لَا يَعْطِي مَنَّكُمْ سُلَيْمَانٌ وَجْهُوْدُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان اور اُسکے شکر، اور ان کو خبر نہ ہو۔

.19

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قُوْلِهَا

پھر مسکرا کر ہنس پڑا اُس کی بات سے۔

وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ

اور بولا، اے رب!

میری قسمت میں دے کہ شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے کیا مجھ پر اور میرے ماں باپ پر،

وَأَنْ أَعْمَلَ صَدِلَّاً تَرْضَهُ

اور یہ کہ کروں کام نیک جو تو پسند کرے

وَأَذْخُلِنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الْصَّالِحِينَ

اور ملا لے مجھ کو اپنی مہر (رحمت) سے اپنے نیک بندوں میں۔

.20

وَتَقَدَّمَ الْطَّيْرُ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى أَهْدُهُ

اور خبری اُڑتے جانوروں کی، تو کہا، کیا ہے جو میں نہیں دیکھتا ہدہ کو؟

أَمْ كَانَ مِنَ الْغَابِيْنَ

یا ہور ہاوہ غائب۔

لَا عَذِّبَنَّهُ عَذَّبَ اَبَّا شَدِيدًا اَوْ لَا اَذْبَحَنَّهُ

اس کومار دوں گا زور کی یا ذبح کر ڈالوں گا،

أَوْ لَيَأْتِيَّنِي بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ

یالائے میرے پاس کوئی سند صریح (معقول وجہ)۔

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَخْطُثُ هَمَالَمُ تُحْكُمُ بِهِ

پھر بہت دیر نہ کی کہ آکر کہا، میں لے آیا خبراً یک چیز کی کہ تجھ کو اس کی خبر نہ تھی،

وَجَنَّتُكَ مِنْ سَبَبِنَّا يَقِينٍ

اور آیا ہوں تیرے پاس سب سے ایک خبر لے کر

إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا أَتَّمَلِكُهُمْ

تحقیق میں نے پائی ایک عورت اُن کے راج پر،

وَأَوْتَيْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

اور اس کو سب چیز ملی ہے، اور اس کا ایک تخت ہے بڑا۔

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ

میں نے پایا کہ وہ اور اسکی قوم سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوا،

.21

.22

.23

.24

وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

اور بھلے دکھائے ہیں ان کو شیطان نے اُن کے کام، پھر روکا ہے اُن کو راہ سے، سو وہ راہ نہیں پاتے۔

أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَرَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

کیوں نہ سجدہ کریں اللہ کو جو نکالتا ہے چھپی چیز آسمانوں میں اور زمین میں،

وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تُعْلَمُونَ

اور جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور جو کھولتے ہو۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

اللہ ہے! کسی کی بندگی نہیں اُسکے سوا صاحب تخت بڑے کا۔ (سجدہ)

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمَّا كُنْتَ مِنَ الْكَذِيبِينَ

کہا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہایا تو جھوٹا ہے۔

أَذْهَبِ بِكِتَبِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ

لے جا میرا یہ خط اور ڈال دے اُن کی طرف،

ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنْظُرْ مَا ذَا إِيْرَجُونَ

پھر اُن پاس سے ہٹ آ، پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمُلْكُ أَنِّي أَلْقَى إِلَى كِتَبٍ كَرِيمٍ

کہنے لگی، اے دربار والو! میرے پاس ڈال دیا ہے ایک خط عزت کا۔

.25

.26

.27

.28

.29

.30

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَكَنْ وَإِنَّهُ

وہ خط ہے سلیمان کی طرف سے اور وہ ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

.31

أَلَا تَعْلُوْ أَعْلَىٰ وَأَثُونِي مُسْلِمِينَ

کہ زور نہ کرو میرے مقابل، اور چلے آؤ حکم بردار ہو کر۔

.32

قَالَتْ يَأَيُّهَا أَمْلُوكًا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي

کہنے لگی، اے دربار والو! مشورہ دو مجھ کو میرے کام کا۔

مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ

میں مقرر نہیں کرتی کوئی کام، جب تک تم حاضر نہ ہو۔

.33

قَالُوا نَحْنُ أُولُوْ أَقْوَىٰ وَأُولُوْ أَبَاسٍ شَدِيدٍ

وہ بولے ہم لوگ زور آور ہیں اور سخت لڑائی والے۔

وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَا ذَا تَأْمُرِينَ

اور کام تیرے اختیار ہے، سو تو دیکھ لے جو حکم کرے۔

.34

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا أَقْرَيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً

کہنے لگی، بادشاہ جب پیٹھیں (گھسیں) کسی بستی میں، اسکو خراب کریں

.35

اور کرڈا لیں وہاں کے سرداروں کو بے عزت۔

وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

اور یہی کچھ کریں گے۔

وَإِنِّي مُرْسِلٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرُهُمْ يَرْجُعُ الْمُرْسَلُونَ

اور میں بھیجتی ہوں ان کی طرف کچھ تخفہ،

پھر دیکھتی ہوں کیا جواب لے کر پھرتے (واپس آتے) ہیں بھیجتے ہوئے۔

.36

فَلَمَّا جَاءَ سَلِيمَانَ قَالَ أَنْهِمْ دُونَنِ يَمَالٍ

پھر جب پہنچا سلیمان پاس، بولا کیا تم میری رفاقت کرتے ہو مال سے؟

فَمَا أَءَاتَنِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا أَتَيْتُكُمْ

سو جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے بہتر ہے اس سے جو تم کو دیا۔

بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِنِي تَقْرَحُونَ

نہیں، تم اپنے تخفہ سے خوش رہو۔

.37

أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ

پھر (واپس) جاؤں کے پاس،

فَلَنَا أَتَيْنَاهُمْ بِمَجْنُودٍ لَا قَبْلَهُمْ بِهَا

اب ہم پہنچے ہیں ان پر ساتھ لشکروں کے، جن کا سامنا نہ ہو سکے اُن سے،

وَلِلّٰهِ رِجْنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّةٌ وَهُمْ صَدَغُرُونَ

اور نکال دیں گے ان کو وہاں سے بے عزت کر کر، اور وہ خوار ہوں گے۔

.38

قَالَ يٰأَيُّهَا الْمُلُوكُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهِ مَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

بولا، اے دربار والو!

تم میں کوئی ہے کہ لے آئے میرے پاس اُسکا تخت، پہلے اس سے کہ آئیں میرے پاس حکم بردار ہو کر۔

.39

قَالَ عَفْرِيْتٌ مِّنْ أَجْنِنٍ أَنَّاءً إِتَّيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ

بولا، ایک راکس (قوی ہیکل) جنوں میں سے، میں لادیتا ہوں وہ تجھ کو، پہلے اس سے کہ ٹوٹھے اپنی جگہ سے۔

وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ

اور میں اس کے زور کا ہوں معتبر۔

.40

قَالَ اللَّٰهُذِيْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ

بولا وہ شخص جس کے پاس تھا ایک علم کتاب کا،

أَنَّاءً إِتَّيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

میں لادیتا ہوں تجھ کو وہ پہلے اس سے کہ پھر آئے تیری طرف تیری آنکھ (کہ تو پلک جھپکے)۔

فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ

پھر جب دیکھا وہ دھرا (رکھا ہوا) اپنے پاس کہا،

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُو نِعَمًا شُكْرًا مُّكْفِرٌ

یہ میرے رب کے فضل سے، میرے جانچنے کو، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔

وَمَنْ شَكَرَ فِي أَنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ

اور جو کوئی شکر کرے اپنے واسطے۔

وَمَنْ كَفَرَ فِي أَنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

اور جو کوئی ناشکری کرے، سو میرا رب بے پرواہ ہے نیک ذات۔

قَالَ نَكِرُوا أُهْمَاءَ عَرْشَهَا

.41

کہا، روپ بدل دکھاؤ اس عورت کو اس کے تخت کا،

نَنْظُرُ أَتَهُمْ تَدِيَ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ

ہم دیکھیں سو جھ پاتی ہے، یا ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کو سو جھ نہیں۔

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ

.42

پھر جب آپنچی، کسی نے کہا، کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت؟

قَالَتْ كَانَهُ هُوَ

بولي، یہ وہی ہے،

وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ

اور ہم کو معلوم ہو چکا آگے سے، اور ہم ہو چکے حکم بردار۔

صَلَّى
وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور بند کیا اس کو ان چیزوں سے جو پوجتی تھی اللہ کے سوا،

إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَفِيرِينَ

البته وہ تھی منکر لوگوں میں۔

قَيْلَ لَهَا أَذْخُلِ الصَّرْخَ

کسی نے کہا اس عورت کو، اندر چل محل میں۔

فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِيبَتْهُ لِجْتَةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا

پھر جب دیکھا اس کو، خیال کیا وہ پانی ہے کھڑا، اور کھولیں اپنی پنڈلیاں۔

قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّرَدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ

کہا یہ تو ایک محل ہے، جڑے ہوئے اس میں شیشے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بولی، اے رب! میں نے برا کیا ہے اپنی جان کا،

اور حکم بردار ہوئی ساتھ سلیمان کے، اللہ کے آگے جورب سارے جہان کا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْ شَمْوَدَ أَخَاهُمْ صَدِلَحًا أَنْ أَعْبُدُو أَلَّهَ

اور ہم نے بھیجا تھا شمود کی طرف ان کا بھائی صارخ کہ بندگی کرو اللہ کی،

فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ

پھر وہ تو دو جتھے ہو کر لگے جھگڑنے۔

قَالَ يَقُومٌ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

کہا اے قوم! کیوں شتاب (جلدی) مانگتے ہو براہی پہلے بھلائی سے؟

لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

کیوں نہیں گناہ بخشوانتے اللہ سے شاید تم پر رحم ہو۔

قَالُوا أَطَيَّبُونَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ

بولے، ہم نے بد (منحوں) قدم دیکھا تجھ کو اور تیرے ساتھ والوں کو۔

قَالَ طَيْرٌ كُمْ عِنْدَ اللَّهِ

کہا، تمہاری بری قسم اللہ کے پاس ہے،

بَلْ أَنْثُمْ قَوْمٌ نُفْتَنُونَ

کوئی نہیں، تم لوگ جانچے جاتے ہو۔

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

اور تھے اس شہر میں نو شخص، خرابی کرتے ملک میں، اور سنوارنہ کرتے۔

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لِنَبِيِّنَاهُ وَأَهْلَهُ

بولے آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی، مقرر (ضرور) رات کو پڑیں ہم اس پر اور اسکے گھر پر،

ثُمَّ لَنْقُولَنَّ لَوْلِيهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ

پھر کہہ دیں گے اسکا دعویٰ کرنے والے کو، ہم نے نہیں دیکھا جب تباہ ہوا اسکا گھر، اور ہم بیشک سچ کہتے ہیں۔

.50

وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

اور انہوں نے بنایا ایک فریب اور ہم نے بنایا ایک فریب، اور ان کو خبر نہیں۔

.51

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ مَكْرِهِمْ

پھر دیکھ! کیسا ہوا آخر انکے فریب کا؟

أَنَّا دَمَرْتُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ

کہ اکھاڑا ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو ساری۔

.52

فَتِلْكَ بُيُونُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا

سو یہ پڑے ہیں ان کے گھر ڈھے (ویران) ہوئے ان کے انکار سے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْلَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

البتہ اس میں نشانی ہے ایک لوگوں کو جو جانتے ہیں۔

.53

وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ إِيمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

اور بچادیا ہم نے ان کو جو یقین لائے تھے، اور بچتے رہے (متقی) تھے۔

.54

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُهُنَّ الْفَحْشَةَ وَأَنْتُمْ تُبَصِّرُونَ

اور لوٹ کو جب کہا اپنی قوم کو، کیا تم کرتے ہو بے حیائی اور تم دیکھتے ہو۔

.55

إِنَّكُمْ لَتَأْتُهُنَّ الْرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ

کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر لچا کر، عورتیں چھوڑ کر۔

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

کوئی نہیں! تم لوگ بے سمجھ ہو۔

^صفَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهَا إِلَى الْوَطِينِ قَرِيتُكُمْ

پھر اور جواب نہ تھا اسکی قوم کا، مگر یہی کہ بولے، نکالو لوٹ کے گھروالوں کو اپنے شہر سے،

إِنَّمَا أَنَّاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

یہ لوگ ہیں سترے رہا (پاکیزہ رہنا) چاہتے۔

فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَأَهْلَهُمْ إِلَّا أُمْرَأَتُهُمْ قَدْ رَأَاهَا مِنَ الْغَيْرِ يَنْ

.57

پھر بچادیا ہم نے اس کو اور اسکے گھر کو، مگر اسکی عورت، ٹھہر دیا تھا ہم نے اس کو رہ جانے والوں میں۔

^صوَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا

اور بر سایا ہم نے ان پر بر ساو۔

فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِ يَرِينَ

پھر کیا برا بر ساو تھا ان ڈرائے ہوؤں کا۔

قُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْطَفَيَ

.58

تو کہہ، تعریف ہے اللہ کو، اور سلام ہے اسکے بندوں پر جنکو اس نے پسند کیا۔

ءَالَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ

بھلا اللہ بہتر یا جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔

أَمْنٌ خَلَقَ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

بھلا کس نے بنائے آسمان اور زمین؟

وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْسَّمَاءِ مَاءً

اور اتار دیا تم کو آسمان سے پانی؟

فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَّ إِقْدَاثَ بَهْجَةٍ

پھر اگائے ہم نے اس سے باغ رونق کے،

مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا

تمہارا کام نہ تھا کہ اگائے ان کے درخت۔

أَعْلَهُ مَعَ اللَّهِ

اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟

بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

کوئی نہیں! وہ لوگ راہ سے مڑتے ہیں۔

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا

بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہراو،

وَجَعَلَ خِلَلَهَا أَكْثَرًا وَجَعَلَ هَنَارَهَا سَيَّ

اور بنائیں اس کے پنجندیاں اور رکھے اس میں بوجھ (پہاڑ)،

وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا

اور کھادو دریا میں اوٹ۔

أَءِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ

اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟

بَلْ أَكُّثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

کوئی نہیں! ان بہتوں کو سمجھ نہیں۔

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُفْسُطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الْسُّوَاءَ وَيَجْعَلُكُمْ خَلَقَاءَ الْأَرْضِ

بھلا کون پہنچتا ہے پھنسے کی پکار کو جب اس کو پکارتا ہے اور اٹھادیتا ہے برائی، اور کرتا ہے تم کو نائب زمین پر۔

أَءِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ

اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟

قَلِيلًاً مَا تَذَكَّرُونَ

تم سوچ کم کرتے ہو۔

أَمَّنْ يَهْدِي كُمْ فِي ظُلْمَتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

بھلا کون راہ بتاتا ہے تم کو اندھیروں میں جنگل کے اور دریا کے؟

وَمَنْ يُرْسِلُ اللَّهِ يَحْبُشُ رَبِيعًا بَيْنَ يَدَيِ رَحْمَتِهِ

اور کون چلاتا ہے باویں (ہوا بیک) خوشخبری لاتیں اُسکی مہر (رحمت) سے آگے؟

.62

.63

ج
أَئِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ

اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟

تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

اللہ بہت اوپر ہے اس سے جو شریک بناتے ہیں۔

أَمَّن يَبْدَءُ أَلْخَانَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

.64

بھلا کون سرے سے بناتا ہے پھر اس کو دھرا تا ہے؟

وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَااءِ وَالْأَرْضِ

اور کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟

ج
أَئِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ

اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟

قُلْ هَاتُوا بُرْهَنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

تو کہہ، لا اپنی سند اگر تم سچے ہو۔

ج
قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ

.65

تو کہہ، خبر نہیں رکھتا جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں چھپی چیز کی، مگر اللہ۔

وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يَبْعَثُونَ

اور ان کو خبر نہیں کب جلائے (زندہ کئے) جائیں گے؟

.66

بَلْ أَذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ

بلکہ ہارگری ان کی دریافت آخرت میں۔

ص

بَلْ هُمْ فِي شَلَّٰقٍ مِّنْهَا

بلکہ ان کو دھوکہ ہے اس میں۔

بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ

بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔

.67

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَأَعْدَّا مُنَّا ثُرَابًا وَأَبَاؤنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ

اور بولے وہ جو منکر ہیں، کیا جب ہم ہو گئے مٹی اور ہمارے باپ دادے، کیا ہم کو زمین سے نکالنا ہے۔

.68

لَقَدْ وُعْدْنَا هَذَا إِنَّحُنُ وَإِنَّا آمُونَا مِنْ قَبْلٍ

و عده مل چکا ہے اس کا ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو آگے سے،

إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ

اور کچھ نہیں، یہ نقیلیں ہیں الگوں کی۔

.69

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

تو کہہ پھر و ملک میں تو دیکھو کیسا ہوا آخر گنہ گاروں کا۔

.70

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ لِمَا يَمْكُرُونَ

اور غم نہ کھاؤں پر اور نہ رہ خفگی میں ان کے داؤ بنانے سے۔

.71

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

اور کہتے ہیں، کب ہے یہ وعدہ؟ اگر تم سچے ہو۔

.72

قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِيفًا لَّكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ

تو کہہ، شاید تمہاری پیٹھ پر پنجی ہو بعضی چیزیں، جس کی شتابی (جلدی) کرتے ہو۔

.73

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

اور تیر ارب تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر، پران میں بہت شکر نہیں کرتے۔

.74

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تَكُونُ صُدُورُهُمْ وَمَا يَعْلَمُونَ

اور تیر ارب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں، اور جو کھولتے (ظاہر کرتے) ہیں۔

.75

وَمَا مِنْ غَيْبَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

اور کوئی چیز نہیں جو غائب ہو آسمان و زمین میں، مگر ہے کھلی کتاب میں۔

.76

إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

یہ قرآن سناتا ہے بنی اسرائیل کو اکثر، جس میں وہ پھوٹ (اختلاف کر) رہے ہیں۔

.77

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

اور یہ سوجھ (ہدایت) ہے، اور رحمہ (رحمت) ہے ایمان والوں کو۔

.78

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ

تیر ارب ان میں فیصلہ کرے اپنی حکومت سے،

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

اور وہی ہے زبردست سب جانتا۔

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}

سو تو بھروسہ کر اللہ پر۔

إِنَّكَ عَلَى الْحُقْقِ الْمَبِينِ

بیشک تو ہے صحیح کھلی راہ پر۔

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُؤْمِنَةِ وَلَا تُسْمِعُ الْمُصَمَّدَ إِذَا وَلَأَوْ أَمْدَبِرِينَ

.80 تو نہیں سن سکتا مُردوں کو، اور نہیں سن سکتا بہروں کو پا کار جب پھریں (بھائیں) پیٹھ دے (پھیر) کر۔

وَمَا أَنْتَ بِهِدِي الْعَمَى عَنْ ضَلَالِهِمْ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}

اور نہ تو دکھاسکے اندھوں کو، جب راہ سے بچلیں (چسلیں)۔

إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِإِيمَانَافَهْمُ مُسْلِمُونَ

.81 تو تو سنا تا ہے اُس کو جو یقین رکھتا ہو ہماری بالتوں پر، سو وہ حکم بردار ہیں۔

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْأَرْضِ

اور جب پڑھکے گی اُن پربات، نکالیں گے ہم اُن کے آگے ایک جانور زمین سے،

تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا إِيمَانَافَهْمُ

.82 اُن سے با تین کریگا، اس واسطے کہ لوگ ہماری نشانیاں یقین نہ کرتے تھے۔

.83

وَيَوْمَ نَخْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا لِمَنْ يُكَذِّبُ بِإِيمَانَنَا فَهُمْ يُوَزَّعُونَ

اور جس دن گھیر بلاعیں گے ہم ہر فرقے سے ایک ڈل (گروہ)، جو جھٹلاتے تھے ہماری باتیں پھر ان کی مثل بنے (درجہ بندی ہو) گی۔

.84

حَقِّي إِذَا جَاءُوكُمْ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ إِيمَانِي

یہاں تک کہ جب آپنچھے، فرمایا، کیوں تم نے جھٹلاعیں میری باتیں؟

وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَلِكُمْ تَعْمَلُونَ

اور آنا چکی تھیں تمہاری سمجھ میں، یا کہو کیا کرتے تھے۔

.85

وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ

اور پڑھ چکی ان پربات، اس واسطے کہ انہوں نے شرارت کی، سو وہ کچھ نہیں بولتے۔

.86

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا

کیا نہیں دیکھتے، کہ ہم نے بنائی رات کہ اس میں چین پکڑیں اور دن بنایا دیکھنے کو۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

البتہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو یقین کرتے ہیں۔

.87

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَرِزَ عَمَّنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ

جس دن پھونکا جائے زسنگا، تو گھبراجائے جو کوئی ہیں آسمان اور زمین میں، مگر جس کو اللہ چاہے۔

وَمُكْلِّفٌ أَتَوْهُدَ اخْرِيْنَ

اور سب چلے آئیں اس کے آگے عاجزی سے۔

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ الْسَّحَابِ^ج

اور تو دیکھتا ہے پہاڑ، جانتا ہے وہ جم رہے ہیں، اور وہ چلیں گے جیسے چلے بدی۔

صُنْعُ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ مُكْلِّفُ شَيْءٍ^ج

کارگیری اللہ کی، جس نے سادھی ہے ہر چیز۔

إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

اس کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔

مَنْ جَاءَ بِالْحُسْنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا

جو کوئی لایا بھلانی تو اس کو ملنا ہے اس سے بہتر۔

وَهُمْ مِّنْ فَرَّعٍ يَوْمَ إِذَا امْتُوْنَ

اور ان کو گھبراہٹ سے اس دن چین ہے۔

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيْئَةِ فَكُبَّثَتْ وَجْهُهُمْ فِي النَّارِ

اور جو کوئی لایا برائی، سواندھے ڈالے ہیں ان کے منه آگ میں۔

هَلْ تُحِزُّونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ کرتے تھے۔

.88

.89

.90

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّهُذِهِ الْبَلْدَةُ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ^{صَلَوة}

مجھ کو یہی حکم ہے، کہ بندگی کروں اس شہر کے مالک کی، جس نے رکھا س کو ادب کا، اور اسی کی ہے ہر چیز۔

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

اور حکم ہے کہ رہوں حکم برداروں میں۔

وَأَنْ أَتُلُّ الْقُرْءَانَ

اور یہ کہ سنادوں قرآن۔

فَمَنِ اهْتَدَ إِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ^{صَلَوة}

پھر جو کوئی راہ پر آیا، سوراہ پر آئے گا اپنے بھلے کو۔

وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ

اور جو کوئی بہ کار ہاتو کہہ دے میں یہی ہوں ڈر سنا نے والا۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيِّدِ الْعِزَّةِ فَتَعَرَّفُونَهَا^ج

اور کہہ، تعریف ہے سب اللہ کو، آگے دکھادے گا تم کو اپنے نمونے، تو ان کو پہچان لو گے۔

وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

اور تیر ارب بے خبر نہیں ان کاموں سے، جو کرتے ہو۔
